

# Data Textiles Limited

---

July 20, 2017

The General Manager,  
Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi

Dear Sir,

**Sub: Notice of Election of Directors of Data Textiles Limited**

In terms of requirement of Listing Regulation No. 5.6.4(b), we enclose herewith a Notice of Election of Directors (both English & Urdu) of Data Textiles Limited, which will be published on Friday, 21 July 2017 in Nawa i Waqt and The Nation.

You may please inform TRE certificate holders of The Exchange accordingly.

Yours Truly,



**Syed Farman Ali Gillani**  
Company Secretary



# داتا ٹیکسٹائلز لمیٹڈ

## ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق داتا ٹیکسٹائلز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی نے مندرجہ ذیل اشخاص کے نوٹس وصول کئے ہیں جن میں انہوں نے خود کو کمپنی کے 29 ویں سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز سوموار 31 جولائی 2017 کو صبح 10:00 بجے فلیٹس ہوٹل ایجرتن روڈ لاہور میں منعقد ہو رہا ہے، بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے پیش کیا جاتا ہے۔

- |                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| (1) محمد حسن نواز       | (2) فریحہ نواز          | (3) سید باسل مقتدر |
| (4) فرحان عباس شیخ      | (5) سید دانیال احمد شاہ |                    |
| (6) شیخ محمد سلمان الحق | (7) ندیم احمد           |                    |

چونکہ ان اشخاص کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کیلئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 154 کے تحت متعین کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد نہیں، لہذا مندرجہ بالا سات (07) امیدواروں کو آنے والے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹر منتخب سمجھا جائے گا۔

## بحکم بورڈ

سید فرمان علی گیلانی

کمپنی سیکرٹری

لاہور 21 جولائی 2017

# DATA TEXTILES LIMITED

## ELECTION OF DIRECTORS

In terms of section 159 (4) of the Companies Act 2017 the members of the Data textiles Limited (Company) are here by notified that the Company has received from the following persons the notices of their intention to offer themselves for election of Directors at the 29th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday 2017 at 10:00 a.m at Flettis Hotel, Edgerten Road Lahore.

- 1- Muhammed Hassan Nawaz
- 2- Farria Nawaz 3- Syed Basil Muqtadir
- 4- Farhan Abbas Sheikh
- 5- Syed Danyaal ahmed shah
- 6- S Muhammad Salman Ul-haq
- 7- Nadeem Ahmed

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Director fixed under Section 154 (1) of the Companies Act 2017 the above named Seven (7) Candidates Shall be deemed to be elected as Directors of the Company at the said Annual General Meeting of the Company.

By Order of the Board

Syed Farman Ali Gillani

Company Secretary

Lahore 21 July 2017